

ڈراپ ان پروگرام کی رجسٹریشن ٹائم لائن میں تبدیلی

24 مارچ سے، شرکاء ڈراپ ان پروگراموں کے آغاز کے وقت سے
25 گھنٹے پہلے رجسٹر کرا سکتے ہیں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

ڈراپ ان پروگرام کیا ہے؟

ڈراپ ان پروگرام ایک مرتبہ استعمال ہونے والے، یعنی پے ایز یو گو (pay-as-you-go) پروگرام ہوتے ہیں، جو کسی جاری سلسلے کا حصہ نہیں ہوتے۔ مثالوں میں شامل ہیں: عوامی تیراکی اور اسکیٹس اور ایسے پروگرام جو "ڈراپ ان" کے طور پر لیبل شدہ ہوتے ہیں۔

میں ڈراپ ان پروگرام میں کیسے رجسٹر ہوں؟

رہائشیوں اور اراکین کے لیے رجسٹریشن 25 گھنٹے پہلے دستیاب ہو جائے گی اور غیر رہائشیوں کے لیے ایک گھنٹہ پہلے۔
رجسٹریشن آن لائن brampton.ca/registerforprograms پر جا کر، کسی تفریحی مرکز میں خود جا کر یا 311 پر کال کر کے کروائی جا سکتی ہے۔

اگر میرے پاس ممبر شب موجود ہو، تو کیا مجھے پھر بھی ڈراپ ان پروگراموں کے لیے پہلے سے رجسٹر کرانا ہو گا؟

ممبرشپ رکھنے والوں کو بھی نشست محفوظ کرنے، مناسب منصوبہ بندی کو یقینی بنانے اور زیادہ مانگ والے تفریحی پروگراموں میں نشست کو یقینی بنانے کے لیے رجسٹریشن کرانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ اپنے لیے نشست محفوظ کرنے کے لیے رجسٹریشن کرائیں کیونکہ مشہور پروگرام اکثر جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر جگہ ہو، تو بغیر رجسٹریشن کے بھی داخل ہونے دیا جاتا ہے۔

اگر میں ڈراپ ان پروگرام میں شرکت نہ کر سکوں تو کیا ہو گا؟

براہ کرم آن لائن اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے اپنی ڈراپ ان ریزرویشن منسوخ کرا دیں۔ منسوخیاں پروگرام شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے تک 311 کے ذریعے بھی قبول کی جاتی ہیں۔ شرکاء اپنی بکنگ منسوخ کرانے کے لیے 24 گھنٹے کے نوٹس کے ساتھ recreation@brampton.ca پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

تفریحی پروگراموں اور خدمات کے بارے
میں مزید معلومات کے لیے
brampton.ca/registerforprograms
پر جائیں۔

